

کورونا وائرس
گھر پر رہیں
این ایچ ایس کو
بچائیں
زندگیاں بچائیں



UK Government

گھر پر ریس

این ایچ ایس اور زندگیان بچانے کے لیے سب سے ابم واحد اقدام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر پر ریس۔

آپ کو گھر سے صرف محدود وجوبات کی بنا پر بن نکلنا چاہیے:

- بنیادی ضروریات زندگی کی خریداری کے لیے، جیسے خوراک اور ادویات، جتنا کم تواتر سے ممکن ہو۔
- ورزش کے لیے دن میں ایک بار جیسے دوڑ لگانا، پیدل چلنا یا سائیکل چلانا - اکیلے یا ابلخانے کے ساتھ۔
- کوئی سی طبی ضروریات، بشمول، خون کا عطیہ کرنا، خطرے سے بچنا، کسی زدپذیر فرد کو کیٹر یا مدد فراہم کرنا۔
- کام کے لیے سفر کرنا، لیکن صرف اُس صورت میں جب آپ گھر سے کام نہ کر پائیں۔

یہ استثنائی حالات ہیں - اور آپ کو گھر سے باہر گزارا جانے والا وقت کم سے کم رکھنا چاہیے اور یقینی بنانا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے افراد کے علاوہ بر فرد سے دو میٹر کی دوری پر ریس۔

کریٹیکل ورکرز، اور زدپذیر بچوں کے والدین یا ان کے کیٹر مہیا کنندگان بچوں کو گھر سے سکول اور سکول سے گھر تک لے جانے کے لیے گھر سے نکل سکتے ہیں۔ مزید معلومات آن لائن دستیاب ہے۔ اگر والدین علیحدہ رہتے ہوں تو بچوں کو ایک گھر سے دوسرے گھر تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔

انفیکشن پھیلانے سے روکنے میں مدد کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں

- کثرت سے باتھ دھوئیں، صابن اور پانی کے ساتھ - کم سے کم 20 سیکنڈ کے لیے یہ کریں۔
- جب آپ کھانسیں یا چھینکیں تو اپنا مُنہ اور ناک ٹشو یا اپنی آستین سے ڈھانپیں (باتھ سے نہیں)۔
- فوری طور پر ٹشو ز کو بن میں ڈال دیں اور فوری بعد باتھ دھوئیں۔
- اگر آپ کے باتھ صاف نہ ہوں تو اپنی آنکھوں، ناک اور مُنہ کو مت چھوئیں۔
- اپنے گھر میں کثرت سے چھوئی جانے والی جگہیں اور اشیاء کو صاف اور جراثیموں سے پاک کریں جیسے دروازوں کے بینڈل اور نل۔
- خریداری ذمہ داری سے کریں، سٹورز کی بدائیات پر عمل کریں اور اپنے لیے اور اپنے گھروالوں کے لیے اور ان کے لیے جن کی آپ مدد کر رہے ہوں صرف وہی کچھ خریں جس کی ضرورت ہو۔



انگلیوں کے درمیان



باتھوں کی پُشت



بتهیل تا بتهیل



انگلیوں کے سرے



انگوٹھے



انگلیوں کی پُشت

علامات

اگر آپ کو مندرجہ ذیل علامات بیں تو بو سکتا ہے کہ آپ کو کورونا وائرس بو چاہیے یہ کتنی بھی معمولی کیوں نہ ہوں:

- تیز بخار۔
- نئی، مسلسل کھانس۔

اگر کسی کو یہ علامات ہوں تو انہیں اُس وقت تک گھر پر رینا چاہیے جب تک یہ علامات ختم نہ ہو جائیں، اور بہر صورت کم سے کم سات دن تک۔ اس گھر میں موجود باقی سب افراد کو پہلے فرد میں علامات ظاہر ہونے کے کم سے کم 14 دنوں تک گھر پر رینا چاہیے جائے ان میں یہ علامات نہ بھی ظاہر ہوں، اگر اس عرصہ کے دوران کسی اور فرد میں علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو انہیں علامات ظاہر ہونے سے لے کر سات اضافی دن بعد تک گھر پر رینا چاہیے۔ جب سات دن گزر جائیں اور بشرطیکہ علامات ختم ہو گئی ہوں تو انہیں مزید دوری اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جی پی سرجری، فارمیسی یا بسپیتال مت جائیں۔

این ایج ایس کی آن لائن سروسز استعمال کریں۔ 111 کو صرف اُسی صورت میں کال کریں جب آپ آن لائن نہ جا سکیں، آپ کو کال کرنے کی تاکید کی گئی ہو یا آپ کے علامات بغیر جائیں۔

اگر آپ کی زندگی کو سنگین خطرے جیسی بندگامی صورت حال درپیش ہو تو **999** کو کال کریں اور کال ایڈوائیز کو بتائیں کہ آپ کو کورونا وائرس کی علامات بیں۔

				
فرد ذی	فرد سس	فرد بی	فرد اے	دن
				01
			میں علامات ظاہر بوتی ہیں - اس سے ان کے لیے 7 دن کی تباہی شروع ہو جائی گی اور ان کے گھرائی کے بر قرد کے لیے 14 دن کی۔	02
				03
				04
				05
				06
				07
				08
			اگر علامات ختم ہو جائیں تو تباہی ختم ہو جائی گے	09
				10
				11
				12
				13
				14
میں علامات ظاہر بوتی ہیں اور 7 دن کی گنتی شروع ہو جائی گے				15
	کوئی علامت نہ ہوں تو تبہائی ختم ہو جائی گے			16
				17
				18
				19
				20
علامات رُک جائیں تو تبہائی ختم ہو جائی گے				

اُن افراد کے لیے جو 70 سے زیادہ عمر کے بیس، جن کو بادی النظر میں نظر نہ آئے والی کوئی بیماری ہے یا حاملہ بیس

وہ افراد جو 70 سے زیادہ عمر کے بیس، جن کو بادی النظر میں نظر نہ آئے والی کوئی بیماری ہے یا حاملہ بیس ان کو زیادہ سنگین انداز میں متاثر ہونے کا امکان ہے۔ یہ اور بھی زیادہ ابم ہے کہ آپ مندرجہ بالا بدایات پر عمل پیرا ہو کر اپنی حفاظت کریں۔

اگر بظاہر نظر نہ آئے والی کسی بیماری کے وجہ سے آپ کو زیادہ سنگین خطرہ درپیش ہے تو آپ کو این ایج کی جانب سے پہلے ہی ایک خط مل چکا ہونا چاہیے جس میں بدایات موجود ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔

اگر آپ کو خریداری یا ادویات کی ضرورت ہے تو رشتے داروں، دوستوں یا بمسایوں سے کہیں کہ وہ یہ آپ کے دروازے پر چھوڑ جائیں یا اگر ممکن ہو تو آن لائن آرڈر کریں۔ اپائشنمنٹس بُک کرنے یا نسخوں کو دوبارہ آرڈر کرنے کے لیے این ایج ایس کی آن لائن سروس یا این ایج ایس کی ایپ استعمال کریں - فون صرف اسی صورت میں کریں جب یہ ممکن ہے۔

خود کو اور دیگر لوگوں کو درپیش خطرہ کم سے کم کرنے کے لیے جس پی سے مشورہ فون پر یا آن لائن کریں۔ ممکن ہے کہ جس پی پریکٹسز غیر فوری بیلٹھ چیکس یا معمول کی اپائشنمنٹس کو موخر کر دیں۔

حاملہ خواتین کے لیے کورونا وائرس کے بارے میں مفید معلومات آپ کو رائل کالج آف آپسٹریشنز اینڈ گائناکالوجسٹ ویب سائٹ پر مل سکتی ہے۔

کاروباری اداروں اور ملازمین کے لیے امداد

حکومت کو ادراک ہے کہ ملک بھر میں ان اقدامات کا اثر کاروباری اداروں، گھروں اور افراد پر پڑے گا اور اس نے زندگیوں اور لوگوں کی آمدنی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔

کاروباری اداروں کے لیے:

- قرضوں اور زرضمانات کے لیے £330 بلین سے زائد رقم فرایم کی جاری رہے۔
- ٹیکس میں چھوٹ اور نقد گراتس کے ذریعے £20 بلین کی مزید رقم کاروباری اداروں کو دی جائیں گے۔
- ایج ایم آر سی اگلی سہ ماہی کے لیے وی ائے ٹن کی ادائیگی موخر کر دیں گے۔

ملازمین اور خاندان:

- کورونا وائرس جاب ریٹینشن سکیم کا مطلب ہے کہ ملازمین اپنی تنخوابوں کا 80 فی صد مابانہ زیادہ سے زیادہ £2,500 تک وصول کر سکتے ہیں۔
- کورونا وائرس سیلف ایمپلائمنٹ سپورٹ سکیم سیلف ایمپلائڈ افراد یا کاروباری شرکتوں کو انکے منافع کا 80% گرانٹ کی شکل میں مہیا کر دی گی جس کی زیادہ سے زیادہ حد £2,500 فی ماہ ہے۔
- یہ روزگار افراد اور کم آمدni والے افراد کے لیے یونیورسل کریڈٹ اور ٹیکس کریڈٹ کے ذریعے £1,040 تک کی امداد موجود ہے۔
- کرائے داروں کے لیے تقریباً £1 بلین کی اضافی امداد۔
- کورونا وائرس کی وجہ سے مشکل میں گرفتار کسی بھی فرد کے لیے تین ماں کے لیے مورگیج بالی ڈیز، بشمول بائے ٹولیٹ گھروں کے مالکان کے۔

یہ کاروباری اداروں اور ملازمین کو دستیاب امداد میں سے صرف چند مثالیں ہیں۔ مزید معلومات آن لائن دستیاب ہے۔

کام بے جانا

کام کے مقاصد کے لیے سفر کر سکتے ہیں، لیکن صرف اُسی صورت میں جب آپ گھر سے کام نہ کر پائیں۔

آجروں اور اجیروں کو اپنے کام کرنے کے انتظامات پر بات کرنی چاہیے اور آجروں کو اپنے ملازمین کے گھر سے کام کرنے کو ممکن بنانے کے لیے بر ممکن اقدام کرنا چاہیے۔ کچھ نوکریاں متراضی ہوتی ہیں کہ لوگ کام کی جگہ پر جائیں۔

اگر آپ گھر سے کام نہیں کر سکتے تو آپ کام کی جگہ تک سفر کر سکتے ہیں بشرطیکہ نہ تو آپ میں اور نہ ہی آپ کے گھرانے کے کسی فرد میں کورونا وائرس کی علامات موجود ہوں۔ یہ چیف میڈیکل آفیسر کی بداعیات سے مطابقت رکھتا ہے۔

ان سب شعبوں اور دیگر کے بارے میں معلومات آن لائن دستیاب ہے

اگر آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو [gov.uk/coronavirus](https://www.gov.uk/coronavirus) پر جائیں
اگر آپ سکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں تو [gov.scot/coronavirus-covid-19](https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19)

پر جائیں اگر آپ ولز میں رہتے ہیں تو [gov.wales/coronavirus](https://www.gov.wales/coronavirus)

پر جائیں اگر آپ ناڈرن آئرلینڈ میں رہتے ہیں تو nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19 پر جائیں

یہ معلومات دیگر زبانوں یا متبادل اشکال میں حاصل کرنے کے لیے براہ
مہربانی **جائز** [gov.uk/coronavirus](https://www.gov.uk/coronavirus) پر

اگر آپ کو اپنی بات دوسرا فرد تک پہنچانے میں سماعت کے مسائل درپیش ہوں تو آپ ٹیکسٹ فون **18001 111** پر کال کر سکتے ہیں یا **NHS** www.nhs.uk/111 تک رسائی حاصل کریں یا **British Sign Language (BSL)** کے ذریعے انٹرپریٹر سروس تک رسائی حاصل کریں۔

گھر پر رہیں۔ این ایچ ایس کو بچائیں۔ زندگیاں بچائیں۔